



## سوال

(536) سونے چاندی سے رنگے ہوئے برتنوں کے استعمال کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شیشے کے برتن، جن پر ہم کیمیکل لگا کر بھٹی میں ڈالتے ہیں، جس سے ان برتنوں پر سونے چاندی کی طرح لائنیں آجاتی ہے، کیمیکل کی ۱۰۰ گرام کی شیشی میں سونے کی مقدار ۱۲% ہوتی ہے اور باقی مقدار مختلف کیمیکلز کی ہوتی ہے، کیا ایسے برتنوں میں کھانا پینا صحیح ہے؟ کیا یہ کام کرنا صحیح ہے؟ ازراہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!  
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سونے اور چاندی سے رنگے ہوئے ان برتنوں میں کھانا پینا اسی طرح حرام اور ناجائز ہے جس طرح خالص سونے کے برتنوں میں حرام ہے۔

”عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية الفضة بما سحر جرمي بطنه نار جهنم" ((مستقن علیہ))۔  
وفی روایة لمسلم: "أن الذي يأخذ أو يشرب في آنية الفضة هو الدنوب"

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ لپٹنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے، وہ لپٹنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے۔

”عن ابن أبي العلی، قال کان حدیثہ بالمدین فاستقی، فاناه وبعثان بصدق فضیہ، فرماہ بہ فضل ابی لم ارمہ الا انی سیدتہ فطم ینتہ، وإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنا عن الحریر والدیبا ج والشراب فی آنیۃ الدنوب والفضیۃ وقال "جن لحم فی الدنیا وی لکم فی الآخرة"۔ (بخاری: 5632)

ابن ابی العلی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا حدیث بن بیان رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا، انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا پھر کہا میں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا لیکن یہ باز نہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیبا کے پھنے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گے۔

مذکورہ احادیث مبارکہ میں نبی عام ہے جو خالص سونے چاندی سے بنے ہوئے اور ان سے رنگے ہوئے دونوں قسم کے تمام برتنوں کو شامل ہے۔ کیونکہ رنگنے سے بھی سونے چاندی

